

مقدس جگہ حصہ چہارم

کاپی رائٹ - ہیلن شرمپٹن 2019 - تمام جملہ حقوق محفوظ

www.crystalsandcrochet.com



اون کی تفصیل اور رنگوں کی ترتیب فی چکر جاننے کے لئے اس لنک پر کلک کریں

<https://crystalsandcrochet.com/crochet/introducing-sacr...e-crochet-a-long>

نمونہ امریکی انگریزی میں لکھا گیا ہے -

Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2019 ♥ All Rights Reserved.

مخفف -

St, sts	ٹانکا،	Sc	سادہ ٹانکا	Bl	اوپری زنجیر کے پچھلے حصے میں
R	چکر	Hdc	آدھا بڑا ٹانکا	Fl	اوپری زنجیر کے اگلے حصے میں
Ch	ٹانکا زنجیر	Dc	بڑا ٹانکا	Bp	ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے
Sl-st	گم ٹانکا	Tr	دو بل ٹانکا	Fp	ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے
		Dtr	تین بل ٹانکا		

اشارے آپ کی سہولت کے لئے دئے گئے ہیں جو امید ہے کہ نئے بنانے والوں کے لئے آسانی کا باعث ہوگے

تصاویر کو اعداد سے ظاہر کیا گیا ہے -

** دو ستاروں کے درمیان دی گئی ہدایات کو بتائی گئی تعداد میں دہرائیں یہ عام طور پر مکمل طرف کی دہرائی ہوتی ہے -

جس میں کئی طرح کی ہدایات شامل ہوتی ہیں -

() بریکٹ کے اندر دی گئی ہدایات کو بتائی گئی تعداد میں دہرائیں -

() یہ عموماً نچلے درجے کی دہرائی ہوتی ہے

خصوصی ٹانکے

اس نمونے میں کئی خصوصی ٹانکے استعمال کئے گئے ہیں جن کا ویڈیو ٹیٹوریل میرے یو ٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں -

[YouTube Channel Special Stitches](#)

دوہرا وی ٹانکا - Double V stitch

(دو بڑے ٹانکے - دو زنجیر ٹانکے - دو بڑے ٹانکے -) ایک ہی ٹانکے یا جگہ میں بنائیں -

پف ٹانکا - Puff Stitch

ہک پہ بل ڈال کر ہک کو بتائے گئے ٹانکے یا جگہ میں سے گزار کہ بل ڈال کر پھندہ کھینچ لیں - (پھندے کی اونچائی بڑے ٹانکے کے برابر ہونی چاہئے -) چار بار دہرائیں - (ہک پہ نو پھندے ہیں) بل ڈال کر ان تمام پھندوں سے اون کھینچ لیں - ٹانکے کو مکمل کرنے کے لئے ایک زنجیر ٹانکا بنائیں - یہ زنجیر ٹانکا - ٹانکوں کی گنتی میں شامل نہیں کیا جاتا -

چھپنواں چکر -

کسی بھی نوک جگہ سے پہلے بنے ساتویں ٹانکے میں کھڑا سادہ ٹانکا بنائیں - [تصویر نمبر ایک دیکھئے]

- چار زنجیر ٹانکے بنائیں بیچھے سے کام ہو گا چکر نمبر باون کی ایک زنجیر ٹانکے والی نوک جگہ میں ایک سادہ ٹانکا بنائیں ہوگا) چار زنجیر ٹانکے بنائیں - ایک نوک جگہ کے بعد آنے والے ساتویں ٹانکے میں سادہ ٹانکا بنائیں - (پہلا نشان بکسواہ تصویر نمبر دو دیکھئے) اگلے سولہ ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں - ایک زنجیر ٹانکا بنائیں اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں تین بڑے ٹانکے بنائیں - (دو سادہ ٹانکوں کا جھنڈ) ایک زنجیر ٹانکا بنائیں - اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں - (تصویر نمبر تین دیکھئے) اگلے سترہ ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں - (تصویر نمبر چار دیکھئے) بارہ بار دہرائیں - آخری دہرائی میں آخری سادہ ٹانکا چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے سادہ ٹانکے میں گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو مت کاٹیں

ٹانکے شمار کریں - فی دہرائی - پینتیس سادہ ٹانکے - تین بڑے ٹانکے - دو زنجیر ٹانکے والی ایک جگہ - دو زنجیر ٹانکے والی چار جگہ -



ستاونواں چکر -

ایک زنجیر ٹانکا بنائیں اور اس ہی ٹانکے میں ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ [تصویر نمبر ایک دیکھئے]۔
(اگلی چار زنجیر جگہ میں چار سادہ ٹانکے بنائیں۔ اگلے ٹانکے میں سادہ ٹانکا بنائیں۔ اگلی چار زنجیر جگہ میں چار سادہ ٹانکے بنائیں۔ اگلے چودہ ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ (پہلا چھپا ٹانکا رہ نہ جائے) (ایک زنجیر ٹانکا بنائیں۔ اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلی ایک زنجیر جگہ میں تین بڑے ٹانکے بنائیں۔) دو بار دہرائیں۔ ایک زنجیر ٹانکا بنائیں۔ اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے چودہ ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔) [تصویر نمبر دو دیکھئے] بارہ بار دہرائیں آخری دہرائی میں آخری سادہ ٹانکا چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے سادہ ٹانکے میں گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو مت کاٹیں۔
ٹانکے شمار کریں۔ فی دہرائی۔ سینتیس بڑے ٹانکے۔ چھ بڑے ٹانکے۔ ایک زنجیر ٹانکے والی تین جگہ۔



اٹھاونواں چکر -

ایک زنجیر ٹانکا بنائیں اور اس ہی ٹانکے میں ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ اگلے بیس ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ [تصویر نمبر ایک دیکھئے]۔ ((ایک زنجیر ٹانکا بنائیں۔ اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں۔ اگلی ایک زنجیر جگہ میں تین بڑے ٹانکے بنائیں۔) تین بار دہرائیں ایک زنجیر ٹانکا بنائیں۔ اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں۔ اگلے اکتیس ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔) [تصویر نمبر دو دیکھئے] بارہ بار دہرائیں۔ آخری دہرائی میں آخری اکتیس ٹانکے چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے سادہ ٹانکے میں گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو مت کاٹیں۔
ٹانکے شمار کریں۔ فی دہرائی۔ اکتیس سادہ ٹانکے۔ نو بڑے ٹانکے۔ چار زنجیر ٹانکے والی ایک جگہ۔



اونسٹھواں چکر -

ایک زنجیر ٹانکا بنائیں اور اس ہی ٹانکے میں ایک سادہ ٹانکا بنائیں - اگلے سترہ ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا - [تصویر نمبر ایک دیکھئے] - ((ایک زنجیر ٹانکا بنائیں - اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں - اگلی ایک زنجیر جگہ میں تین بڑے ٹانکے بنائیں چار بار دہرائیں - ایک زنجیر ٹانکا بنائیں - اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں - اگلے پچیس ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں -) [تصویر نمبر دو دیکھئے] بارہ بار دہرائیں - آخری دہرائی میں آخری اٹھارہ سادہ ٹانکے پہلے چھوڑتے ہوئے کھڑے سادہ ٹانکے میں گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو مت کاٹیں -

ٹانکے شمار کریں - فی دہرائی - پچیس سادہ ٹانکے - بارہ بڑے ٹانکے - ایک زنجیر ٹانکے والی پانچ جگہ



ساٹھواں چکر -

ایک زنجیر ٹانکا بنائیں اور اس ہی ٹانکے میں ایک سادہ ٹانکا بنائیں - اگلے چودہ ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں - [تصویر نمبر ایک دیکھئے] - ((ایک زنجیر ٹانکا بنائیں - اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں - اگلی ایک زنجیر جگہ میں تین بڑے ٹانکے بنائیں -) پانچ بار دہرائیں ایک زنجیر ٹانکا بنائیں - اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں - اگلے اونیس ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں -) [تصویر نمبر دو دیکھئے] بارہ بار دہرائیں - آخری دہرائی میں آخری پندرہ سادہ ٹانکے چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے سادہ ٹانکے میں گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو مت کاٹیں

ٹانکے شمار کریں - فی دہرائی - اونیس سادہ ٹانکے - پندرہ بڑے ٹانکے - ایک زنجیر ٹانکے والی چھ جگہ -



اکسٹھواں چکر

ایک زنجیر ٹانکا بنائیں اور اس ہی ٹانکے میں ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ اگلے بارہ ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ [تصویر نمبر ایک دیکھئے]۔ (ایک زنجیر ٹانکا بنائیں۔ اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں۔) (اگلی ایک زنجیر جگہ میں تین بڑے ٹانکے بنائیں۔ ایک زنجیر ٹانکا بنائیں۔ اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں۔) پانچ بار دہرائیں۔ اگلی ایک زنجیر جگہ میں تین بڑے ٹانکے بنائیں۔ ایک زنجیر ٹانکا بنائیں۔ اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں۔ اگلے پندرہ ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔) [تصویر نمبر دو دیکھئے] بارہ بار دہرائیں۔ آخری دہرائی میں آخری تیرہ سادہ ٹانکے چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے سادہ ٹانکے میں گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اور نیا ٹانکا بنائیں۔

ٹانکے شمار کریں۔ فی دہرائی۔ پندرہ سادہ ٹانکے۔ اٹھارہ بڑے ٹانکے۔ ایک زنجیر ٹانکے والی سات جگہ



باسٹھواں چکر

ایک زنجیر ٹانکا بنائیں اور اس ہی ٹانکے میں ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ اگلے چار ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ [تصویر نمبر ایک دیکھئے]۔ (چکر نمبر پچپن کی ایک زنجیر جگہ میں سے اور اگلے ٹانکے میں دو سادہ ٹانکے بنائیں۔ اگلے پانچ ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ ایک زنجیر ٹانکا بنائیں۔ اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں) (ایک زنجیر جگہ میں تین بڑے ٹانکے بنائیں۔ اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں۔ ایک زنجیر ٹانکا بنائیں۔) چھ بار دہرائیں اگلی ایک زنجیر جگہ میں تین بڑے ٹانکے بنائیں۔ ایک زنجیر ٹانکا بنائیں۔ اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں۔ اگلے پانچ ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔) [تصویر نمبر دو دیکھئے]۔ بارہ بار دہرائیں۔ آخری دہرائی میں آخری پانچ سادہ ٹانکے چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے سادہ ٹانکے میں گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اور نیا ٹانکا بنائیں۔

(ٹانکے شمار کریں۔ فی دہرائی۔ بارہ سادہ ٹانکے۔ اکیس بڑے ٹانکے۔ ایک زنجیر ٹانکے والی آٹھ جگہ

اشارہ: آپ کا کام پیالی نما ہو جائے گا۔



تریسٹھواں چکر -

ایک زنجیر ٹانکا بنائیں - اور اس ہی ٹانکے میں آدھا بڑا ٹانکا بنائیں - اگلے گیارہ ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں -

[تصویر نمبر ایک دیکھئے] - (اگلی ایک زنجیر جگہ میں دو آدھے بڑے ٹانکے بنائیں) (اگلے تین ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں - ایک زنجیر جگہ میں آدھا بڑا ٹانکا بنائیں -) چھ بار دہرائیں - اگلے تین ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں - اگلی ایک زنجیر جگہ میں دو آدھے بڑے ٹانکے بنائیں - اگلے بارہ ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں -) [تصویر نمبر دو دیکھئے] بارہ بار دہرائیں - آخری دہرائی میں آخری بارہ آدھے بڑے ٹانکے چھوڑتے ہوئے پہلے آدھے بڑے ٹانکے میں چھوڑتے ہوئے چکر مکمل کر لیں اور اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں -

ٹانکے شمار کریں - فی دہرائی - ترتالیں آدھے بڑے ٹانکے -



چونسٹھواں چکر -

کسی بھی ٹانکے میں کھڑا بڑا ٹانکا بنائیں - اگلے ٹانکے میں بنائیں - (بڑا ٹانکا - دو زنجیر ٹانکے - دو بڑے ٹانکے) (دوبرا وی ٹانکا) [تصویر نمبر ایک دیکھئے] - (اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں - اگلے ٹانکے میں دوبرا وی ٹانکا بنائیں) [تصویر نمبر دو دیکھئے] - ایک سو اٹھائیس بار دہرائیں - پہلے کھڑے بڑے ٹانکے میں جوڑتے ہوئے چکر مکمل کر لیں اور اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں ٹانکے شمار کریں - ایک سو انتیس دوبرا وی ٹانکا -




بینسٹھواں چکر -

کسی بھی دوہرے وی ٹانکے میں کھڑا بڑا ٹانکا بنائیں [تصویر نمبر ایک دیکھئے] - (دوہرے وی ٹانکوں کے درمیان پف ٹانکا بنائیں - دوہرے وی ٹانکے میں چار بڑے ٹانکے بنائیں) - [تصویر نمبر دو دیکھئے]

ایک سو انتیس بار دہرائیں - آخری دہرائی میں آخری بڑا ٹانکا چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے بڑے ٹانکے میں جوڑتے ہوئے چکر مکمل کر لیں - اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں -

ٹانکے شمار کریں پانچ سو سولہ بڑے ٹانکے ایک سو انتیس پف ٹانکے

آپ کا کام کچھ ڈگمگائے گا




سڑسٹھواں چکر -

کسی بھی چار بڑے ٹانکوں کے گروپ کے چوتھے بڑے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے آدھا بڑا ٹانکا بنائیں - [تصویر نمبر ایک دیکھئے] - (پف ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بڑا ٹانکا بنائیں - اگلے چار ٹانکوں کے گرد پچھلی طرف سے آدھا بڑا ٹانکا بنائیں) - [تصویر نمبر دو دیکھئے] ایک سو انتیس بار دہرائیں - آخری دہرائی میں آخری ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بنا آدھا بڑا ٹانکا چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بنے آدھے بڑے ٹانکے میں جوڑتے ہوئے چکر

مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں -

ٹانکے شمار کریں - پانچ سو سولہ ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بنے آدھے بڑے ٹانکے - ایک سو انتیس پف ٹانکے -



حصہ چہارم اختتام پذیر ہوا -

اس وقت کام کو بلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے -

ہمارے کروشے آلونگ میں شامل ہونے کا شکریہ -

مدد اور رہنمائی کے لئے ہمارا فیس بک پیج گروپ ہیلن ہکوبولک میں شامل ہو سکتے ہیں -

<https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/>

♡ برائے مہربانی اس بات کو یاد رکھئے گا کہ یہ میرا نمونہ ہے اور اس پہ کاپی رائٹ ایکٹ لاگو ہوتا ہے - آپ میرے ویب سائٹ یا ریولری سٹور کی معلومات کسی کو بھی دئے سکتے ہیں - آپ اسکا پی ڈی ایف اپنے استعمال کے لئے چھاپ سکتے ہیں لیکن برائے مہربانی اس میں کچھ بھی تبدیل یا بدل نہیں سکتے نہ ہی شیئر کر سکتے ہیں - برائے مہربانی میرا احترام کیجیے جیسے کہ میں آپ کا کرتی ہوں -

آپکی ہیلن